

## Nasirat ul Ahmadiyya UK

### Ijtema Syllabus 2016

All Nasirat should attend local, regional and national Ijtema wearing the correct uniform which is white modest clothing (shalwar kameez, trousers and long shirt, long skirt etc.) and a head scarf in the colour allocated to your region. At national level, marks are deducted for incorrect uniform by the participants, and this can also be done at local and regional levels, but must be announced prior to the event.

### TILAWAT-E-QUR'AN

Tilawat-e-Qura'n does NOT need to be memorised. Marks should be given for correct pronunciation and overall presentation.

7-9	10-12	13-14
Surah Al-Baqarah Chapter 2 : Verse 187	Surah Aal-e-`Imran Chapter 3 : Verse 192	Surah Al-Baqarah Chapter 2 : Verse 285-287

Reference: Translation by Maulvi Sher Ali (ra)

#### Group 7-9

#### **Surah Al-Baqarah Chapter 2 : Verse 187**

And when My servants ask thee about Me, say: 'I am near. I answer the prayer of the supplicant when he prays to Me. So they should hearken to Me and believe in Me, that they may follow the right way.'

اور جب میرے بندے تجھ سے میرے متعلق سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہوں۔  
میں دعا کرنے والے کی دعا کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ پس چاہئے کہ وہ  
بھی میری بات پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ  
أَجِيبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ  
فَلَيْسَ تَحِيْبُوَالِي وَلِيَوْمِ مَوْءَاِجٍ لَّعَلَّهُمْ  
يُرْشِدُونَ ﴿١٨٧﴾

#### Group 10-12

#### **Surah Aal-e-`Imran Chapter 3 : Verse 192**

Those who remember Allah while standing, sitting, and lying on their sides, and ponder over the creation of the heavens and the earth: "Our Lord, Thou hast not created this in vain; nay, Holy art Thou; save us, then, from the punishment of the Fire.

وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہوئے بھی اور بیٹھے ہوئے بھی اور اپنے پہلوؤں کے بل بھی اور  
آسمانوں اور زمین کی پیدا آئش میں غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ (اور بے ساختہ کہتے ہیں) اے ہمارے  
رب! تو نے ہرگز بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ پاک ہے تو۔ پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ  
جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ  
وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا  
مَّسْحٰكًا فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿١٩٢﴾

**Group 13-14** (Each Nasira should be tested on a small portion from within this Rukuh.)

Surah Al-Baqarah Chapter 2 : Verse 285-287

[2:285] To Allah belongs whatever is in the heavens and whatever is in the earth; and whether you disclose what is in your minds or keep it hidden, Allah will call you to account for it; then will He forgive whomsoever He pleases and punish whomsoever He pleases; and Allah has the power to do all that He wills.

[2:286] This Messenger of Ours believes in that which has been revealed to him from his Lord, and so do the believers: all of them believe in Allah, and in His angels, and in His Books, and in His Messengers, saying, 'We make no distinction between any of His Messengers;' and they say, 'We hear, and we obey. We implore Thy forgiveness, O our Lord, and to Thee is the returning.'

[2:287] Allah burdens not any soul beyond its capacity. It shall have the reward it earns, and it shall get the punishment it incurs. Our Lord, do not punish us, if we forget or fall into error; and our Lord, lay not on us a responsibility as Thou didst lay upon those before us. Our Lord, burden us not with what we have not the strength to bear; and efface our sins, and grant us forgiveness and have mercy on us; Thou art our Master; so help us Thou against the disbelieving people.

[2:285] اللہ ہی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ اور خواہ تم اسے ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے یا اسے چھپاؤ، اللہ اس کے بارہ میں تمہارا محاسبہ کرے گا۔ پس جسے وہ چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا۔ اور اللہ ہر چیز پر جسے وہ چاہے دانگی قدرت رکھتا ہے۔

[2:286] رسول اس پر ایمان لے آیا جو اس کے رب کی طرف سے اس کی طرف اتارا گیا اور مومن بھی۔ (ان میں سے) ہر ایک ایمان لے آیا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر (یہ کہتے ہوئے کہ) ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کریں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ تیری بخشش کے طلبگار ہیں۔ اے ہمارے رب! اور تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔

[2:287] اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ اس کے لئے ہے جو اس نے کمایا اور اس کا وبال بھی اسی پر ہے جو اس نے (بدی کا) اکتساب کیا۔ اے ہمارے رب! ہمارا مواخذہ نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے۔ اور اے ہمارے رب! ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسا ہم سے پہلے لوگوں پر (ان کے گناہوں کے نتیجے میں) ٹوٹنے ڈالا۔ اور اے ہمارے رب! ہم پر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈال جو ہماری طاقت سے بڑھ کر ہو۔ اور ہم سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے۔ اور ہم پر رحم کر۔ ٹوٹی ہمارا والی ہے۔ پس ہمیں کافر قوم کے مقابل پر نصرت عطا کر۔

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَاِنْ تُبَدَّلُوْا مَا فِيْۤ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخْفَوْهُ يُّحَاسِبِكُمْ بِهٖ اللّٰهُ ۗ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٢٨٥﴾

اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا اُنزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهٖ ۚ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۗ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلٰٓئِكَتِهٖ ۚ وَكُتِبَ عَلَيْهِمْ وَّرِسٰلِهٖ ۗ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهٖ ۗ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۗ غُفْرٰنَكَ رَبَّنَا ۗ اِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ﴿٢٨٦﴾

لَا يَكْلِفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَسِيْنَاۙ اَوْ اَخْطَاْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلٰى الدّٰٓيِنِ ۗ مِنْ قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ ۗ وَاغْفِرْ لَنَا ۗ وَاغْفِرْ لَنَا ۗ وَاَرْحَمْنَا ۗ اَنْتَ مَوْلٰنَا ۗ فَاَنْصُرْنَا عَلٰى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٨٧﴾

## HIFZ –E-QUR’AN

Masha’Allah, due to the growing number of our Nasirat, Hifz-e-Qur’an must now be tested at local level and prizes given out at regional level.

The Judges for this competition must be approved by the local Sadr, and should be chosen on her correct recitation of the Holy Qur’an, and she must neither be too strict, nor too lenient. If more than one judge is required, then they should all work on the same set criteria so that all Nasirat are judged fairly. It is also permitted to invite judges from neighbouring Majalis if that is deemed more suitable by the Sadr.

7-9	10-12	13-14
Surah Al-Fatiha with Translation (English/Urdu)	Surah Al-Fatiha with Translation (English/Urdu)	Surah Al-Fatiha with Translation (English/Urdu)
Last 5 Surahs of the Holy Qur’an	Last 8 Surahs of the Holy Qur’an	Last 11 Surahs of the Holy Qur’an
Surah Al-Baqarah Chapter 2 : Verses 1-3	Surah Al-Baqarah Chapter 2 : Verses 1-5	Surah Al-Baqarah Chapter 2 : Verses 1-8
<p style="text-align: center;">Qur’anic prayer</p> <p style="text-align: center;">رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴿٢٨﴾</p> <p style="text-align: center;">O my Lord, a beggar I am of whatever good You bestow upon me. (28:25)</p> <p style="text-align: center;">اے میرے رب! یقیناً میں ہر اچھی چیز کے لئے، جو تو میری طرف نازل کرے، ایک فقیر ہوں۔</p>	<p style="text-align: center;">Qur’anic Prayer</p> <p style="text-align: center;">ارَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَوَدَّرِيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ﴿٧٥﴾</p> <p style="text-align: center;">‘Our Lord, grant us of our wives and children the delight of our eyes, and make us a model for the righteous (25:75)</p> <p style="text-align: center;">اے ہمارے رب! ہمیں اپنے جیون ساتھیوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔</p>	<p style="text-align: center;">Qur’anic Prayer</p> <p style="text-align: center;">رَبَّنَا لَا تَزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿٩﴾</p> <p style="text-align: center;">Our Lord, let not our hearts become perverse after Thou hast guided us; and bestow on us mercy from Thyself; surely, Thou alone art the Bestower. (3:9)</p> <p style="text-align: center;">اے ہمارے رب! ہمارے دلوں کو ٹیڑھانہ ہونے دے بعد اس کے کہ تو ہمیں ہدایت دے چکا ہو۔ اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر۔ یقیناً تو ہی ہے جو بہت عطا کرنے والا ہے۔</p>

**ENGLISH & URDU SPEECH COMPETITIONS**

Nasirat must research and write their speeches themselves.

All speeches MUST be memorised at regional and national levels.

Topic عناوین	7-9 2 minutes	10-12 2 minutes	13-14 3 minutes
<b>Attribute of Allah</b> صفات باری تعالیٰ	الْوَدُودُ Al-Wadood The Most Loving محبت کرنے والا	الرَّزَّاقُ Ar-Razzaq The Provider رزق دینے والا	الْوَهَّابُ Al-Wahab The Bestower بہت عطا کرنے والا
<b>Important person</b> اہم شخصیت	Hazrat Abraham <sup>as</sup> – Establishing the Oneness of God حضرت ابراہیمؑ اور توحید کا قیام	Hazrat Khalifatul Masih II <sup>rz</sup> – Fulfilment of the prophecy of Musleh-e- Maud حضرت خلیفۃ المسیح الثانیؒ۔ پیشگوئی مصلح موعود کے مصداق	Hazrat Sahibzada Abdul Latif Sahib <sup>rz</sup> – The first martyr of Ahmadiyyat حضرت صاحبزادہ عبداللطیف صاحبؒ۔ احمدیت کے پہلے شہید
<b>Conditions of Bai'at</b> شرائط بیعت	No.1-Shirk پہلی شرط۔ شرک سے اجتناب	No.6-Refraining from unIslamic customs چھٹی شرط۔ اتباع رسم سے بچنا	No.8- Holding faith dearer than anything آٹھویں شرط۔ دین کو دنیا پر مقدم رکھنا
<b>Events</b> تاریخی واقعات	Migration of the Holy Prophet <sup>pbuh</sup> آنحضور ﷺ کی ہجرت	The Battle of Uhud - what lesson does one learn? جنگ احد سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟	The first Bai'at taken by the Promised Messiah <sup>as</sup> حضرت مسیح موعودؑ کے ہاتھ پر پہلی بیعت
<b>Female role model</b> قابل تقلید خواتین	Hazrat Ayesha <sup>ra</sup> حضرت عائشہؓ	Hazrat Haajrah <sup>ra</sup> حضرت حاجرہؓ	Hazrat Syeda Nusrat Jehan Begum Sahiba <sup>ra</sup> حضرت سیدہ نصرت جہاں بیگم صاحبہؓ
<b>Social issues</b> سماجی مسائل	How can I develop a personal relationship with beloved Huzur <sup>aba</sup> ? میں پیارے حضور کے ساتھ رابطہ کیسے رکھ سکتی ہوں؟	Islam's teaching on love for one's country اسلام کی وطن سے محبت کرنے کے بارہ میں تعلیم	Ways in which I can remember Allah Almighty every day خدا تعالیٰ کو ہر روز یاد رکھنے کے ذرائع

**NAZM**

All Nazms are to be memorised.  
There must not be any repetition of verses.

7-9	10-12	13-14
Qaseeda – Verses 4,5 & 6 قَوْمٌ رَأَوْكَ وَ أُمَّةٌ قَدْ أُخْبِرَتْ مِنْ ذَلِكَ الْبَدْرِ الَّذِي أَضْرَبَانِي يَتَكُونُونَ مِنْ ذِكْرِ الْجَمَالِ صَبْلَةً وَأَتَأَلَّمُ مِنْ لَوْعَةِ الْهَجْرَانِ وَأَرَى الْقُلُوبَ لَدَى الْحَتَّاجِ كَثْرَةً وَأَرَى الْعُرُوبَ تُسَيِّئُهَا انْعِيَانِ	Qaseeda – Verses 45, 46 & 47 لَا شَكَّ أَنْ مَعَكُمْ خَيْرُ التَّوَرَى رَيْثُ الْكِرَامِ وَ لَفِيَّةُ الْأَعْيَابِ تَمَنَّ عَلَيهِ صَمَاتُ كُلِّ مَرْيَمَةَ مُحِيَمَتِ بِه تَعْمَاءُ كُلِّ رَمَابِ وَاللَّوِيَانُ مَحْمَدًا كَرِيهًا وَمِنَ الْوُطُونِ بِسُدَّةِ السُّلْطَانِ	Qaseeda – Verses 68,69 & 70 يَا حَيْبُ إِتْلُكَ قَدْ كَفَلْتِ مَعْبِيَّةً فِي مُهَجَّبِي وَ مَدَارِي وَ جَنَابِي مِنْ ذِكْرِ وَجْهِكَ يَا حَدِيقَةَ الْبَهْجِي لَمَّا نَحَلُّ فِي تَعْيِظٍ وَلَا فِي أَنْ جَشِيمِي يُطِيرُ إِلَيْكَ مِنْ كُنُوفِ عَلَا يَا كَيْتَ كَأَنَّ قُرُوقَ الطَّيْرَانِ
دَرْشَمِين زندگی بخش جامِ احمد ہے کیا ہی پیارا یہ نامِ احمد ہے لاکھ ہوں انبیاءِ مگر بخدا سب سے بڑھ کر مقامِ احمد ہے باغِ احمد سے ہم نے بھل کھایا میرا بسناں کلامِ احمد ہے	دَرْشَمِين وہ دیکھتا ہے غیروں سے کیوں دل لگاتے ہو جو کچھ بتوں میں پاتے ہو اس میں وہ کیا نہیں سورج یہ غور کر کے نہ پائی وہ روشنی جب چاند کو بھی دیکھا تو اس یارِ سائیں واحد ہے لاشریک ہے اور لا زوال ہے سب موت کا شکار ہیں اس کو فنا نہیں	دَرْشَمِين ہے شکر ربِّ عَزَّوَجَلَّ خارجِ ازبیا جس کے کلام سے ہمیں اس کا ملا نشان دیکھو! خدا نے ایک جہاں کو جھکا دیا گم نامِ پاک کے شہرہ عالم بنا دیا جو کچھ مری مراد تھی سب کچھ دکھا دیا میں اک غریب تھا مجھے بے انتہا دیا
کلام محمود مری رات دن بس یہی اک صدا ہے کہ اس عالم کون کا اک خدا ہے اسی نے ہے پیدا کیا اس جہاں کو ستاروں کو سورج کو اور آسمان کو وہ ہے ایک اس کا نہیں کائی ہمسر وہ مالک ہے سب کا وہ حاکم ہے سب پر	کلام محمود میں اپنے پیاروں کی نسبت وہ چھوٹے درجہ پہ راضی ہوں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ادنی سا قصور اگر دیکھیں وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر وہ ادنی ادنی خواہش کو	کلام طاہر حضرت سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں میں افضل و اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نام محمد، کام مکرم، صلی اللہ علیہ وسلم بادی کا بل، زہیر اعظم، صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جلوہ حسن کے آگے، شرم سے نوروں والے بھاگے مہر و ماہ نے توڑ دیا دم، صلی اللہ علیہ وسلم

## NAZM TRANSLATIONS

7-9	10-12	13-14
<p style="text-align: center;"><b>Qaseeda – Verses 4,5 &amp;6</b></p> <p>A (group of) people (was fortunate that they) saw you, while others simply heard about you: The (enchantingly beautiful) Full Moon which has cast a spell over me.</p> <p>Inspired by (your) love (O Holy Prophet), people tearfully recall your beauty, and their aching hearts are afire, due to being distant from you</p> <p>I see that (their) hearts (are beating) in (such) anxiety (as if they) have reached their throats, and I see that (their grieving) eyes shed tears.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Qaseeda – Verses 45, 46 &amp; 47</b></p> <p>No doubt, it is Muhammad<sup>sa</sup> who is the best of all creation; he is the essence (and vital force) of the elect of God.</p> <p>All (noble) qualities (pertaining to) every kind of superiority, have reached perfection in him; and (also) the (spiritual) bounties for all times have reached their climax in him (and Allah will now grant these only to those who truly follow Him).</p> <p>By God! (the Holy Prophet) Muhammad<sup>sa</sup> is certainly like the Prime Minister (in his spiritual relation to Almighty God) and it is through him (alone) that there can be access (for anyone) to the threshold of the King (Almighty God).</p>	<p style="text-align: center;"><b>Qaseeda – Verses 68,69 &amp;70</b></p> <p>O my beloved! Your love has certainly penetrated, my soul, my mind, and my heart.</p> <p>O my Garden of Spiritual Delights! (I am ever so absorbed in your fond thoughts and) from the remembrance of your (blessed) face, I am not free, even for a moment or split-second.</p> <p>My body is craving to fly towards you due to (my) enormous longing for you (O Holy Prophet)! I wish I (actually) had the (capacity and) power to fly!</p>
<p style="text-align: center;"><b>Durre-Sameen</b></p> <p>The goblet of Ahmad revives the spirit of life. How beautiful is this name Ahmad.</p> <p>There are thousands of prophets, however, by God; the highest of them all is the station of Ahmad.</p> <p>We have tasted the fruit from the orchard of Ahmad; our nourishment is the Word of Ahmad.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Durre-Sameen</b></p> <p>He is always observing you; why then do you set your heart upon others? What does He not possess of the things you seek in the idols?</p> <p>Reflecting upon the sun, we did not find that light. When we turned to the moon, even that was not like the Beloved.</p> <p>He is One, has no partner and is Immortal. All others are prey to death; He is Eternal.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Durre-Sameen</b></p> <p>Gratitude to the Lofty and Gloried Lord is beyond Expression. The One by Whose Word we were blessed with the sign of His Existence.</p> <p>Lo! The Lord has bowed the heads of an entire world of people! He found me unknown and lifted me to world fame.</p> <p>Whatever I desired, He showed me all of that. A pauper I was, He granted me limitless treasure.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Kalam-e-Mehmood</b></p> <p>Day and night I proclaim only this: That this entire universe has only One God</p> <p>He is the One who has created this universe; the stars, the sun and the sky</p> <p>He is One and has no partner. He is the Master of all, He is the King over all</p>	<p style="text-align: center;"><b>Kalam-e-Mehmood</b></p> <p>Never shall I approve of those I love to remain content with the small things in life with their sights always aiming low.</p> <p>Those who snarl growl like beasts at petty little things, foaming and frothing at the mouth at the slightest provocation.</p> <p>Those who place their hopes in petty things and make meagre desires their purpose in life.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Kalam-e-Tahir</b></p> <p>The holy master of the children of Adam - Peace and blessings of Allah be upon him!</p> <p>The supreme and most revered among all the prophets of God - Peace and blessings of Allah be upon him!</p> <p>Muhammad was his name; Glorified his deeds - Peace and blessings of Allah be upon him!</p> <p>A guide par excellence, a leader among the leaders - Peace and blessings of Allah be upon him!</p> <p>The dazzling radiance of his splendour shamed the illustrious to flight!</p> <p>The sun and the moon were put out before him and ceased to shine - Peace and blessings of Allah be upon him!</p>